



## سوال

اگر کوئی شخص اپنے اوپر عورتوں کو حرام کر لے اور شادی کرنا حرام کر لے تو اس کے متعلق شرعی حکم کیا ہے؟

## جواب

الحمد للہ

اول:

کسی بھی شخص کے لیے اللہ کی حلال کردہ اشیاء کو حرام کرنا جائز نہیں چاہے وہ عورت ہو یا کھانا وغیرہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

اے ایمان والو! تم ان پاکیزہ اشیاء کو حرام مت کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور حد سے تجاوز مت کرو یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا  
المائدہ (87).

کچھ صحابہ کرام نے عورتوں سے علیحدہ رہنا اور رہبانیت اختیار کرنی چاہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا اور اس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل فرمادی

ابن جریر رحمہ اللہ اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ مجاہد رحمہ اللہ کا بیان ہے:

"کچھ افراد نے جن میں عثمان بن مظعون اور عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی شامل ہیں اپنے آپ کو خصی کرنا چاہا اور بتل اختیار کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور بخاری و مسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ:

"رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا اور عورتوں سے علیحدگی اختیار کرنے کو رد کر دیا، اگر آپ انہیں اجازت دیتے تو ہم نھی ہو جاتے"

صحیح بخاری حدیث نمبر (5074) صحیح مسلم حدیث نمبر (1402).

چنانچہ بتل اور خصی ہونا اور عورتوں کو حرام کر لینا یہ سب حرام ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ اور سنت سے منہ پھیرنا اور بے رغبتی کرنا ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بھی کی اور شادی کی رغبت دلائی اور اس پر ابھارا اور ترغیب دلائی

اور بخاری و مسلم کی ایک حدیث میں ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں:

"میں شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھراؤ جگہ مطہرات کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق دریافت کیا، جب انہیں بتایا گیا تو گویا انہوں نے اپنی عبادت کو کم سمجھا اور کہنے لگے:

کہاں ہم اور کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اللہ تعالیٰ نے لگے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں!



ان میں سے ایک کفن لگا : میں ہمیشہ ساری رات نماز ہی ادا کرتا رہوں گا، اور دوسرا کفن لگا : میں سارا زمانہ روزہ ہی رکھوں گا اور افطار نہیں کرونگا، اور تیسرا کفن لگا : میں عورتوں سے علیحدگی اختیار کرونگا اور کبھی شادی نہیں کرونگا

چنانچہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور انہیں فرمایا : کیا تم نے ہی ایسی ایسی باتیں کی ہیں، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر رکھنے والا ہوں اور سب سے زیادہ متقی ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، اور افطار بھی کرتا ہوں، اور نماز بھی ادا کرتا ہوں اور سونا بھی ہوں، اور میں نے عورتوں سے شادی بھی کی ہے، لہذا جس نے بھی میرے طریقے اور سنت سے بے رغبتی کی تو وہ مجھ سے نہیں "

صحیح بخاری حدیث نمبر (5063) صحیح مسلم حدیث نمبر (1401).

اس سے یہ پتہ چلا کہ کسی شخص کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ اپنے آپ پر عورتوں کو حرام قرار دے

سوم :

جس نے بھی ایسا کیا اس پر واجب ہے کہ وہ اللہ کے سامنے اس سے توبہ کرے، اور اس پر قسم کا کفارہ ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے :

اے نبی (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ وہ چیز کیوں حرام کر رہے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے، کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قسموں کو کھول ڈالنا مقرر کر دیا ہے، اور اللہ تمہارا کارساز ہے اور وہی علم و حکمت والا ہے التحريم (1-2).

چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حلال کو حرام کرنا قسم قرار دیا ہے

دیکھیں : الشرح الممتع (475/10).

قسم کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کیا جائے یا پھر دس مساکین کو درمیانے قسم کا کھانا کھلایا جائے جو اپنے گھر والوں کو کھلایا جاتا ہے یا پھر دس مسکینوں کو لباس دیا جائے اور جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ تین دن کے روزے رکھے

چہارم :

نکاح کا حکم انسان کی مالی اور بدنی قدرت و استطاعت اور اس کی ضرورت مختلف ہونے کی بنا پر مختلف ہوتا ہے، بعض اوقات نکاح کرنا مستحب ہے اور بعض حالات میں مکروہ اور بعض اوقات واجب و فرض ہوتا ہے

واللہ اعلم.